

RAMADAN PLAN 1438 HIJRI (2017)

RHEIN-MAIN GEBIET

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لِمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (2:184)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر (مجھی) روزوں کا رکھنا (اسی طرح) سے فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں تاکہ تم (روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے) بچو۔

O die ihr glaubt! Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf daß ihr euch schützt.

Die ersten zehn Tage der Gnade

پہلا عشرہ رحمت

پہلے عشرے کی دعا

نمبر	تاریخ	دن	اختتام سحر	ظہر	عصر	وقت افطار	عشاء
Nr.	Datum	Tag	Fastenbeg.	Sohr	Assr	Fastenende	Ischa
1.	28.05.2017	So	03:54	13:37	17:36	21:25	22:43
2.	29.05.2017	Mo	03:53	13:37	17:37	21:26	22:44
3.	30.05.2017	Di	03:52	13:37	17:37	21:28	22:46
4.	31.05.2017	Mi	03:52	13:38	17:38	21:29	22:47
5.	01.06.2017	Do	03:51	13:38	17:39	21:30	22:48
6.	02.06.2017	Fr	03:50	13:38	17:39	21:31	22:49
7.	03.06.2017	Sa	03:49	13:38	17:40	21:32	22:50
8.	04.06.2017	So	03:49	13:39	17:41	21:33	22:51
9.	05.06.2017	Mo	03:48	13:38	17:41	21:34	22:52
10.	06.06.2017	Di	03:48	13:38	17:41	21:34	22:52

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّحِیْمِیْنَ

دوسرے عشرے کی دعا

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ

تیسرے عشرے کی دعا

اللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ

تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Die nächsten zehn Tage der Vergebung

دوسرا عشرہ مغفرت

11.	07.06.2017	Mi	03:47	13:39	17:42	21:35	22:53
12.	08.06.2017	Do	03:47	13:39	17:43	21:36	22:54
13.	09.06.2017	Fr	03:46	13:39	17:43	21:37	22:55
14.	10.06.2017	Sa	03:46	13:40	17:44	21:38	22:56
15.	11.06.2017	So	03:46	13:40	17:44	21:38	22:56
16.	12.06.2017	Mo	03:45	13:39	17:44	21:39	22:57
17.	13.06.2017	Di	03:45	13:39	17:44	21:39	22:57
18.	14.06.2017	Mi	03:45	13:40	17:45	21:40	22:58
19.	15.06.2017	Do	03:45	13:41	17:46	21:41	22:59
20.	16.06.2017	Fr	03:45	13:41	17:46	21:41	22:59

info

آپ اپنے شہر کا رمضان پلان www.ahmadiyya.de سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
افطار کا وقت معلوم کرنے کے لئے نماز مغرب (غروب آفتاب) کے وقت میں 2 منٹ جمع کر لیں۔

Sie können ihren individuellen Ramadan Plan ihrer Stadt von der ahmadiyya.de herunterladen
Zur Berechnung der Uhrzeit des Fastenbrechens, müssen zur Uhrzeit des Magrib-Gebet 2 Min. dazuaddiert werden.

Die letzten zehn Tage der Erlösung von der Hölle

تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات

21.	17.06.2017	Sa	03:45	13:41	17:46	21:41	22:59
22.	18.06.2017	So	03:45	13:41	17:46	21:42	23:00
23.	19.06.2017	Mo	03:45	13:41	17:46	21:42	23:00
24.	20.06.2017	Di	03:45	13:41	17:46	21:42	23:00
25.	21.06.2017	Mi	03:45	13:41	17:47	21:43	23:01
26.	22.06.2017	Do	03:45	13:41	17:47	21:43	23:01
27.	23.06.2017	Fr	03:46	13:42	17:47	21:43	23:01
28.	24.06.2017	Sa	03:46	13:42	17:47	21:43	23:01
29.	25.06.2017	So	03:46	13:42	17:47	21:43	23:01

info

رمضان المبارک کی ایپ Andriod اور Iphone پر ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔
die Ramadan App können Sie für Andriod sowie für Iphone herunterladen

کام کے دوران یا راستے میں قرآن کریم پڑھنے کے لئے قرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔
um auch unterwegs und während der Arbeit den Qura'an zu rezitieren, können Sie die Qura'an App herunterladen.

چارٹ میں نماز کا وقت شروع ہونے کے اوقات دینے گئے ہیں۔ نمازوں کے اوقات مقامی طور پر مقرر کئے جائیں۔ Die Gebetszeiten für die Lokale Gemeinde können vor Ort festgelegt werden

روزہ کھولنے کی دعا اللّٰهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں

O Allah ich habe in deinem Namen gefastet und beende es mit dem Essen, dass du mir beschert hast.

Eid-ul-Fitr Gebet wird inshallah am 26. Juni 2017 am Montag verrichtet.

نماز عید الفطر انشاء اللہ منور جمعہ 26 جون 2017 بروز سوموار کو ادا کی جائے گی

فدیہ: 80€

عید فنڈ: 10€ ہر کمانے والے فرد پر

Sadqatul Fitr

صدقۃ الفطر:

Fidya: 80€

Eid Fund: 10€ pro erwerbstätig

3€ p.p.

3€ فی کس

für feedback können Sie uns auf tarbiyyat@ahmadiyya.de erreichen

اپنی آراء اور فیڈبیک کے لئے tarbiyyat@ahmadiyya.de پر لکھ سکتے ہیں۔